



ہوائی جہاز کے ذریعے آسٹریلیا سے روانہ ہونا

جب آپ ہوائی جہاز کے ذریعے آسٹریلیا چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے ہوں تو مندرجہ ذیل مراحل پر عمل کریں۔

مرحلہ 1 - اپنے سفر کا منصوبہ بنائیں

قبل از وقت منصوبہ بندی کریں

آسٹریلیائی حکومت آسٹریلیا سے روانہ ہونے والے مسافروں کو COVID-19 سے بچاؤ کے لیے مکمل طور پر ویکسین لگوانے اور ویکسینیشن اسٹیٹس کے دستاویزات کے ثبوت اپنے ہمراہ رکھ کر ساتھ سفر کرنے کی تجویز دیتی ہے۔

آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے سفر میں تاخیر اور رکاوٹوں کی صورت میں آپ کیا کریں گے۔

اُن تمام ممالک کے لیے موجودہ سفر، ویزا اور COVID-19 سے متعلق مشورے چیک کریں جن سے آپ ٹرانزٹ کر رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ ہر ملک میں داخلے کے لیے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، جس میں COVID-19 ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ کے تقاضے شامل ہیں۔

ایئر لائنز کے بھی بعض مخصوص تقاضے ہو سکتے ہیں جن پر پورا اترنا آپ کے لیے ضروری ہو سکتا ہے۔

اگر متعلقہ ہو، تو چیک کریں کہ [آسٹریلیا میں دوبارہ داخل ہونے](#) کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔

مرحلہ 2 - اپنے سفر کے آپشنز چیک کریں

پورے آسٹریلیا میں بڑے ہوائی اڈوں سے تجارتی پروازیں دستیاب ہیں۔

مرحلہ 3 - اپنا سفر بک کریں

مرحلہ 4 - سفر کی تیاری کریں

جب آپ اپنی پرواز کے لیے چیک ان کرتے ہیں، تو ایئر لائن کا عملہ آپ کو درج ذیل دستاویزات فراہم کرنے کا مطالبہ کرے گا:

- پاسپورٹ
- بورڈنگ پاس

آپ سے اس بات کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ آسٹریلیا کی بین الاقوامی سفری مقاصد کے لیے مکمل ویکسین شدہ کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔

مرحلہ 5 - جب آپ بیرون ملک مقیم ہوں تو

خود کو اپ ڈیٹ رکھیں

اگر آپ آسٹریلیا میں دوبارہ داخل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو باقاعدگی کے ساتھ [آسٹریلیا میں داخل ہونے](#) کے تقاضوں کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کے سفر کرنے کے دوران ان میں کوئی تبدیلی بھی آسکتی ہے۔